



مجھ مسجدوں کو بلند بنانے کا حکم نہیں دیا گیا

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا: ”مجھ مسجدوں کو بلند بنانے کا حکم نہیں دیا گیا“، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ تم مسجدوں کو اسی طرح آراستہ کرو گے جس طرح یہود و نصاریٰ نے آراستہ کیا ہے
[صحیح] [اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے]

یہاں مساجد کو آراستہ کرنے سے مراد انہیں بلند اور بڑا بنانا ہے جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے کہا ہے اور مساجد کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں مبالغہ سے کام لینا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کا شیوہ رکھنا مسجد کو بلند بنانا اور اس کی عمارت کو مستحکم و مضبوط کرنا بغیر زیب و زینت اور سجاوٹ کے جس سے اس کی بناوٹ مضبوط رہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، جب تک کہ اس میں شیخی، ریاکاری اور شہرت نہ ہو، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے: ”جس کسی نے اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی کے مثل ایک گھر بنا دے گا“ نبی ﷺ کی مسجد کچی اینٹ اور اس کی چھت کھجور کی شاخ اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کی تھلیوں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا تھا، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس کی لکڑی اور کھجور کی شاخ بوسیدہ ہو گئی تو اسے بدلنے کی طرح تعمیر کرادی اور اس میں تھوڑا اضافہ کر دیا، اور جب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ آیا تو اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا، انہوں نے اس کی دیواروں کو پتھروں اور چونا سے پلاستر کرا دیا، اس کے ستون پتھروں سے اور چھت ساگوان کی لکڑی سے بنوا دی، اور اس میں فائدہ مند چیزیں مضبوطی کے لیے ڈال دیں جس کا مقصد سجاوٹ نہیں، بلکہ مضبوطی کے لیے ایسا کیا تھا، اور چونکہ پلاستر بغیر زیب و زینت کے تھا اور رکھنا و نگار والے پتھروں کا معاملہ تو اسے ان کے حکم سے نقش نہیں کیا گیا تھا بلکہ نقش و نگار والا پتھر ہی انہیں ملا تھا، اور جن صحابہ نے ان پر نکیر کی تھی ان کے پاس منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی الا یہ کہ وہ انہیں نبی ﷺ اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح مسجد کی تعمیر بغیر سجاوٹ کے کرنے پر ابھارا تھا اور یہ مساجد کی مستحکم تعمیر کرنے کے سلسلہ میں ممانعت و کراہت کی متقاضی نہیں ہیں

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10898>

